



وَلِكُوْنٍ يَوْمَ تُبَيَّنُ السَّرَّاْئِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ



جس دن دلوں کے بھید جانپے جائیں گے تو انسان کی
کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مدد گار ہو گا

Quran With Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندھری)

سورة الطارق

اردو ترجمہ

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءُ وَالْطَّارِقُ (۱)

آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم

وَمَا أَذْرَكَهُ مَا الطَّارِقُ (۲)

اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟

النَّجْمُ الشَّاقِبُ (۳)

وہ تارا ہے چمکنے والا

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلِيهَا حَافِظٌ (4)

کہ کوئی تنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں

فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5)

تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کا ہے سے پیدا ہوا ہے

خُلَقَ مِنْ مَا إِذَا فَتَّ (6)

وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالثَّرَائِبِ (7)

جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے

إِنَّهُ عَلَى رَاجِعِهِ لَقَادِرٌ (8)

بیشک خدا اس کے اعادے (یعنی پھر پیدا کرنے) پر قادر ہے

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَّايرُ (9)

جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے

فَمَا لِكُلُّهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِيَرٌ (10)

تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مدد گار ہو گا

وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ (11)

آسمان کی قسم جو میںہ بر ساتا ہے

وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ (12)

اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13)

کہ یہ کلام (حق کو باطل سے) جدا کرنے والا ہے۔

وَمَا هُوَ بِالْمَرْدُلِ (14)

اور بیہودہ بات نہیں

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15)

یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں

وَأَكِيدُ كَيْدًا (16)

اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں

فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلْهُمْ رُؤْيَاً (17)

تو تم کافروں کو مہلت دو بس چند روز ہی مہلت دو۔



© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com